



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 28/12/2022

گورنر HOCHUL کی جانب سے تاریخی برفانی طوفان کے پیش نظر مغربی نیو یارک کی اضافی اہم شاہراہوں کو دوبارہ کھولنے کا اعلان

1-190 کا ایری کاؤنٹی حصہ اور ریاستی روٹ 5، 33، اور 198 آج رات 12 بجے مکمل طور پر دوبارہ کھول دیئے جائیں گے

مغربی نیو یارک میں تمام اہم ریاستی شاہراہیں اب کھلی رہیں گی

ریاستی محکمہ ٹرانسپورٹیشن اور تھرو وے اتھارٹی برف ہٹانے میں مقامی بلدیات کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے

گورنر Kathy Hochul نے اعلان کیا ہے کہ ریاست نیو یارک کو متاثر کرنے والے موسم سرما کے سب سے طاقتور طوفانوں میں سے ایک طوفان کے بعد مغربی نیو یارک کی تمام اہم ریاستی شاہراہیں آج رات نصف شب کو دوبارہ کھول دی جائیں گی۔ ریاستی روٹ 5، 33، اور 198، نیز بین الریاست 190 کا ایری کاؤنٹی حصہ مکمل طور پر دوبارہ کھل جائے گا۔ محکمہ ٹرانسپورٹیشن اور تھرو وے کی دیکھ بھال کے عملے نے اولین امدادی اہلکاروں اور مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر گزشتہ چند روز کے دوران مقامی سڑکوں کو برف اور لاوارث گاڑیوں سے صاف کرنے کے لیے مسلسل کام کیا ہے تاکہ ان شاہراہوں کے جلد از جلد دوبارہ کھلنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاست نیو یارک تھرو وے (I-990، I-290، I-90)، ریاستی روٹ 400 اور 219؛ اور نیاگرا کاؤنٹی میں I-190 کے کچھ حصوں اور ایری کاؤنٹی میں I-290 کے شمال میں گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے دوبارہ کھلنے کے ایک روز بعد ٹریفک کے لیے کھولے گئے ہیں۔

گورنر Hochul نے کہا، "ہم مغربی نیو یارک کو موسم سرما کے اس تاریخی طوفان سے بحال ہونے میں مدد دینے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور جب تک کام مکمل نہیں ہو جاتا ہم نہیں رکیں گے۔ میں ہائی وے کی دیکھ بھال کرنے والے تمام اہلکاروں، اولین امدادی اہلکاروں اور ہنگامی خدمات کے عملے کی بے حد شکرگزار ہوں جو نیویارک کے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے انتھک محنت کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔"

ٹرانسپورٹیشن کے ریاستی محکمے اور تھرو وے کا عملہ میدان عمل میں موجود ہیں، مغربی نیو یارک میں مقامی سڑکوں پر ہل چلا رہا ہے، اور ساتھ ہی برف اڑانے اور لوڈ کرنے اور ہٹانے کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ آج تک، محکمہ ٹرانسپورٹیشن نے افرادی قوت اور آلات کی پانچ لہریں بھیجی ہیں، اور مقامی سڑکوں کو صاف کرنے اور سٹی آف بقیلو اور مقامی بلدیات کو برف ہٹانے میں مدد دینے کے لیے ٹھیکیداروں کے وسائل کو متحرک کیا ہے۔ تھرو وے اتھارٹی نے بھی افرادی قوت اور آلات کی دو لہریں مغربی نیویارک بھیجی ہیں اور حالات کے پیش نظر مزید بھیجے گی۔

طوفان سے قبل، اس کے دوران، یا بعد میں تمام غیر ہنگامی خدمات کے لیے 211 پر کال کریں یا [nys.org211](http://nys.org211) ملاحظہ کریں۔

###

اضافی خبر بہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418